

HADITH 100

OMUSIRAAMU Z'ATEEKEDDWA

OKUMANYA



MUHAMMAD QURAISH MAZINGA

**HADIITH 100
OMUSIRAAMU
Z'ATEEKEDDWA
OKUMANYA**



Zitegekeddwa ne Zivvuunulwa:

**Abu Sa'ad Muhammad Quraish
Mazinga**

Ennyanjula

Omusiraamu yenna amanyi bulungi obuzito bw'ebigambo by'omubaka Muhammad ﷺ mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ey'ekitiibwa. Anti obulungamu bwonna mu nsi ne ku nkomerero buli mu kwekwata ku Qur'aan ne ku njigiriza y'omubaka Muhammad ﷺ. Abasiraamu bangi balina Qur'aan mu maka gaabwe kyokka batono nnyo abalina ebigambo by'omubaka waabwe Muhammad ﷺ. Ekitabo kino kitegekeddwa okukusembereza Sunnat mu nju yo n'okumanya enjigiriza y'omubaka waffe ow'ekitiibwa ku nsonga z'obusiraamu eziteekeddwa okumanyibwa Omusiraamu. Hadiith nyangu za kukwata ate nga zonna ntuufu. Nkubiriza Abasiraamu bonna okukisoma n'okukikwasisa abaana baabwe. Nkubiriza n'amasomero g'obusiraamu okukyettanira ennyo wamu n'okukiteeka ku syllabus yaago okukakasa nti omwana tava mu primary okuggyako ng'akikutte.

Abu Sa'ad

OMUNTU AFA NG'ABADDE TAKOLA SHIRK AYINGIRA EJJANA

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (متفق عليه)

1. Hadiith eva ku Abu Dharri رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Omuntu afa mu kibiina kyange ng'abadde tagatta ku Allah kantu konna, ayingira Ejjana.



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ
اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
دَخَلَ النَّارَ. (رواه مسلم)

2. Hadiith eva ku Jaabir Ibn Abdillah رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Oyo alisisinkana Allah nga teyamugattako kintu kyonna ajja kuyingira Ejjana, ate alimusiinkana nga yamugattako ekintu kyonna ajja kuyingira omuliro.

OMUNTU AFA NG'ABADDE AKOLA SHIRIK TALIVA MU MULIRO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ (متفق عليه)

3. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Mas'uud رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Omuntu afa ng'abadde
agatta ku Allah akantu konna,
ayingira omuliro.



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ
لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. (رواه مسلم)

4. Hadiith eva ku Jaabir Ibn Abdillah رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah
ﷻ nti: Oyo alisisinkana Allah nga
teyamugattako kintu kyonna ajja kuyingira
Ejjana, ate alimusinginkana nga yamugattako
ekintu kyonna ajja kuyingira omuliro.

MUHAMMAD ﷺ MUBAKA WA
ALLAH, BULI ATAMUKKIRIZA
AKAAFUWALA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ. لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه مسلم)

5. Hadiith eva ku Abu Hurairat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷺ nti: Njulira nti: Tewali kisinzi bwa mu butuufu okuggyako Allah, (n'enjulira) nti: Nange ndi Mubaka wa Allah. Tewali muddu asisinkana Allah n'okujulira okwo okw'emirundi ebiri, nga tabuusabuusa mu kwo, okuggyako ayingira Ejjana.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (متفق عليه)

6. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, agamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Ndayira oyo awaniridde omwoyo gwange! Tewali n'omu ampulirako (atuukibwako amawulire g'okutumibwa kwange), k'abe muyudaaya (Jew), oba mukurisito (Christian), n'atanzikiriza, okuggyako aba mw'abo ab'okuyingira omuliro.

NABBI TASINZIBWA ATE TAJEEMERWA

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَطْرُقُونِي
كَمَا أَطْرَقَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ. (متفق عليه)

7. Hadiith eva ku mukulembeze w'abakkiriza Umar Ibn Al Khattwab رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah ﷻ yagamba nti: Temungulumiza

ne musukka ensalo, ng'abakristo
(christians) bwe baasukka ensalo mu
kugulumiza (Nabbi Eisah) mutabani wa
Maryam ne bamusinza! Mazima nze ndi
muddu; Mugambenga nti: Omuddu wa
Allah era Omubaka we.




عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَا أَبِي؟ قَالَ: مَنْ
أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى (رواه البخاري)

8. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Abantu b'ekibiina
kyange bonna bajja kuyingira Ejjana
okuggyako oyo an'agaana. Ne
bamugamba nti: Owange ggwe
Omubaka wa Allah! Ani ayinza
okugaana?! N'abagamba nti: Oyo yenna
angondera ajja kuyingira Ejjana, ate
anjeemera mazima aba agaanye
(okugiyingira).

EMPAGI Z'OBUSIRAAMU N'OBUKKIRIZA N'OKULONGOOSA

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ
تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا (رواه مسلم)

9. Hadiith eva ku Umar Ibn Al Khattwab رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Obusiraamu kwe kujulira nti tewali kisinzi bwa mu butuufu okuggyako Allah, nti era mazima ne Muhammad Mubaka we. N'oyimirizaawo esswala (ettaano ez'etteeka), n'owa Zakat, n'osiiba Ramadhan, n'okola Hijja bw'oba olina obusobozi obugikola.



عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ أَنْ
 تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ
 بِالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (رواه مسلم)

10. Hadiith eva ku Umar Ibn Al Khattwab رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Obukkiriza kwe kukkiriza Allah, ne ba Malaika be, n'ebitabo bye, n'ababaka be, n'olunaku lw'enkomerero, n'okukkiriza okugera kwa Allah okubi n'okulungi.



عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِحْسَانُ
 أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (رواه مسلم)

11. Hadiith eva ku mukulembeze w'abakkiriza Umar Ibn Al Khattwab رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Okulongoosa kwe kusinza Allah ng'olinga amulaba. Bw'oba tomulaba, mazima ddala ye akulaba.

OBUKWAKKULIZO
BW'OKUKKIRIZIBWA KWA
IBAADAT

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ
إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (متفق عليه)

12. Hadiith eva ku Umar Ibn Al Khattwab رضي الله عنه, yagamba nti: Nawulira Omubaka wa Allah ﷻ ng'agamba nti: Mazima buli mulimu gubalibwa okusinziira ku kigendererwa (ky'oyo agukoze). Era mazima ddala ekigendererwa kye ky'asasulwa. (Eky'okulabirako): Oyo asenguka (ebifo by'abakaafiiri) olw'eddiini ya Allah n'olwokutaasa Omubaka we, abalibwa nti yasenguka kulwa Allah n'olwokutaasa Omubaka we (afuna empeera mu kusenguka kwe).

Kyokka asenguka olw'edduniya
(gy'asuubira eyo gy'asengukidde),
edduniya gy'afuna. Bw'aba mukyala
yamusengudde, naye amuwasa.
Ekimusengudde ky'afuna.



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم)

13. Hadiith eva ku Aa'ishat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yagamba nti:
Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti:
Omuntu akola omulimo gwonna
(ogw'okusinza) nga teguliiko njigiriza ya
Allah ﷻ wadde ey'omubaka we
Muhammad ﷺ, gumuddizibwa.

EGIMU KU MIRIMU ALLAH ﷻ GY'ASINGA OKWAGALA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟
فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ. (متفق عليه)

14. Hadiith eva ku Abu Hurairat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yabuuzibwa nti: Mulimu ki
ogusinga obulungi? Nayanukula nti:
Okukkiriza Allah n'omubaka we.
N'abuuzibwa nti mulimu ki oguddako?
N'ayanukula nti: Okulwana mu kkubo
lya Allah (Jihaad). N'abuuzibwa nti
mulimo ki oguddako? N'ayanukula nti:
Hijja erongooseddwa.



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا
دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ. (متفق عليه)

15. Hadiith eva ku Aa'ishat yagamba nti Nabbi ﷺ yagamba nti: Omulimu ogusinga okuba omwagalwa eri Allah, gwegwo omuntu gw'awangaalirako ne bwe guba mutono nnyo.

AMAZAMBI AMANENE AGAZIKIRIZA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
المُؤَبِّقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ،
وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا،
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
المُؤْمِنَاتِ العَافِلَاتِ (متفق عليه)

16. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Mwewale amazambi Musanvu agazikiriza. Ne bamugamba nti: Owange ggwe Omubaka wa Allah!

Ge galiwa ago? N'abagamba nti:
Okugatta ku Allah, N'okuloga, N'okutta
omuntu atakkirizibwa kuttibwa,
N'okulya riba, N'okulya emmaali ya ba
mulekwa, N'okudduka mu Jihad,
N'okutemerera abakyala abeekuumye,
Abakkiriza, abeesamba obwenzi.



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكِبَائِرِ
قَالَ: الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
وَشَهَادَةُ الزُّورِ (متفق عليه)

17. Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik رضي الله عنه,
agamba nti: Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم
yabuuzibwa ku mazambi amanene (ge
galiwa?), n'agamba nti: Okugatta ku
Allah, N'okunakuwaza abazadde ababiri,
N'okutta omuntu, N'okuwa obujulizi
obw'obulimba.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ
 الذُّبِّ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.
 قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ
 تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
 أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. (متفق عليه)

18. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Mas'uud رضي الله عنه,
 yagamba nti: Nabuuza Omubaka wa
 Allah ﷺ nti: Zzambi ki erisinga obunene
 eri Allah ﷻ? N'agamba nti kwe kusinza
 Allah ﷻ nga bw'osinza n'ebirala ng'ate
 Allah ye yakutonda yekka! Ne ngamba
 nti: Mazima ddala aba akoze kinene
 nnyo. Ne mmubuuza nti: Zzambi ki
 eriddako? N'agamba nti: N'okutta
 omwana wo olw'okutya okulya naawe!
 Ne mmubuuza nti: Zzambi ki eriddako?
 N'agamba nti: Okwenda ku mukyala
 wa muliraanwa wo.

OBWENZI, OKUBBA, N'OKUNYWA
OMWENGE MAZAMBI MANENE

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ
يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (متفق عليه)

19. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Nabbi صلى الله عليه وسلم yagamba
nti: Omwenzi tayenda, mu kiseera
w'ayendera, n'aba nga Mukkiriza.
N'omunywi w'omwenge tagunywa, mu
kiseera w'agunywera, n'aba nga
Mukkiriza. N'omubbi tabba, mu kiseera
w'abbira, n'aba nga Mukkiriza.

OBUKULU BW'OLUGANDA LW'OBUSIRAAMU

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (متفق عليه)

20. Hadiith eva ku Anas Ibn maalik رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Tasobola kuba Mukkiriza
omu mu mmwe, okutuusa ng'ayagalizza
mugandawe (Omusiraamu) ekyo
ky'ayagaliza omwoyo gwe.



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا
تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (متفق عليه)

21. Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Nabbi ﷻ yagamba
nti: Temunyigagananga, era
temwekwatirwanga ensaalwa, era

temwawukananga, era
temwesengukanga. Mubeere abaddu ba
Allah ab'oluganda. Era tekikkirizibwa
Musiraamu kusenguka mugandawe
okusukka ennaku ssatu.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو
الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق عليه)

22. Hadiith eva ku Ibn Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, yagamba
nti: Mazima Omubaka wa Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
yagamba nti: Omusiraamu aba muganda
wa Musiraamu munne;
Tamulyazaanaanya, era tamuwaayo eri
abalabe be. N'oyo eyeewaayo okumala
ekyetaago kya mugandawe
(Omusiraamu), Allah tamulekerera mu
bwetaavu bwe. N'oyo amalira

Omusiraamu ekizibu, Allah ajja
kumumalira ekizibu mu bizibu
by'olunaku lw'enkomerero. N'oyo
abikkirira Omusiraamu, Allah ajja
kumubikkirira ku lunaku lw'enkomerero.

OKWAGALANA KULWA ALLAH N'OKUTOOLERAGANA SALAAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ
إِذَا فَعَلْتُمْوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (مسلم)

23. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Temugenda kuyingira Jjana
okutuusa nga mubadde Bakkiriza. Ate
temugenda kuba Bakkiriza okutuusa nga
mwagalanye. Mbalagirire ekintu nga
bwe muba mukikoze mujja kwagalana?
Muyitirize okwetoolera Salaam
wakati wammwe.





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:
أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي. (رواه مسلم)



24. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Allah (ajja)
kugamba (ku lunaku lw'enkomerero) nti:
Baliwa abo abaayagalana ku lwange!
Olwaleero mbasiikirize mu kisiikirize
kyange ku lunaku lwe watali kisiikirize
okuggyako ekisiikirize kyange?



**OMUSAAYI GW'OMUSIRAAMU,
EMMAALI YE, N'EKITIIBWA KYE
TEBIKWATIBWAKO**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى
الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ (رواه مسلم)

25. Hadiith eva ku Abu Hurairat ,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah  yagamba nti: Buli Musiraamu
ali haraamu ku Musiraamu munne:
Omusaayi gwe, n'emmaali ye,
n'ekitiibwa kye.

BIKI EBITTISA OMUNTU?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا
بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ... (رواه مسلم)

26. Hadiith eva ku Abu Hurairat ,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah  nti: Nalagirwa okulwanyisa
abantu okutuusa lwe balangirira nti:
Tewali kisinziibwa mu butuufu
okuggyako Allah, era ne banzikiriza nti
ndi mubaka wa Allah, ne bakkiriza
n'ebyo byonna bye najja nabyo.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ
 دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الشَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ
 بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

(متفق عليه)

27. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Mas'uud رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Omusiraamu tattibwa okuggyako ng'akoze ekimu ku bintu ebisatu: Omufumbo omwenzi, n'omussi attibwa, n'ava mu ddiini n'ayawukana ku kibinja (ky'abasiraamu).

ATASAALA AKAAFUWALA

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ
 الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. (رواه مسلم)

28. Hadiith eva ku Jaabir رضي الله عنه, yagamba nti: Nawulira Omubaka wa Allah ﷻ ng'agamba nti: Mazima ekiri wakati w'omusajja ne shirik n'obukaafiiri kuleka sswala.

OBUKULU BW'OKULAGIRA EMPISA
ENNUNGI N'OKUZIYIZA
EMPISA EMBI

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

29. Hadiith eva ku Abu Sa'eed Al khudri رضي الله عنه,
yagamba nti: Nawulira Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم ng'agamba nti: Omu mummwe
bw'alabanga ekikyamu nga kikolebwa,
akikyusenga n'omukono gwe,
bw'alemererwa akikyuse n'olulimi lwe,
bw'alemererwa akitamwe mu mutima
gwe - era obwo bwe bukkiriza
obusinga obunafu.

EMPEERA YA DA'AWAH
N'AKABENJE K'OKUBUZA ABANTU

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى
كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ
آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. (رواه مسلم)

30. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Akoowoola
ng'azza eri obulungamu, afuna empeera
ezenkana empeera za buli agoberera
obulungamu obwo, nga nabo empeera
zaabwe tezikeddeddeeko n'akatono.
N'akoowoola ng'azza eri obubuze, afuna
amazambi agenkana amazambi ga buli
agoberera obubuze obwo, nga nabo
amazambi gaabwe tegakendeddeeko
n'akatono.

ENKIZO Y'OMUMANYI W'OBUSIRAAMU

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. (رواه مسلم)

31. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Omuntu akwata
ekkubo ly'okunoonya okumanya eddiini,
Allah amwanguyiza ekkubo
erimutuusa eri Ejjana.



عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ
يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. (متفق عليه)

32. Hadiith eva ku Mu'aawiya Ibn Abi
Sufyaan رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba
Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم nti: Allah gw'aba
ayagalizza obulungi, amuwa
obukenkufu mu ddiini.

EJJANA TEYINGIRWAMU MUKAAFIIRI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
إِلَّا نَفْسٌ مَسْلُومًا. (متفق عليه)

33. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Tewali agenda
kuyingira Jjana okuggyako Omusiraamu.

EBITENDO BY'EJJANA N'OMULIRO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. (متفق عليه)

34. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم nti: Allah تعالى yagamba nti:

Nategekera abaddu bange abalongoofu
(mu Jjana), ebintu eriiso ly'omuntu
bye litalabangako, n'okutu bye
kutawulirangako, n'omutima
bye gutaloozangako.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ
سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَتْ
لِكَافِيَةٍ . قَالَ فَضَلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا
كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا . (متفق عليه)

35. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba
nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba
nti: Omuliro gwammwe (ogwokunsi)
kitundu kimu ku bitundu nsanvu
eby'omuliro Jahannama. Omwogezi
n'agamba nti: Owange ggwe Omubaka wa
Allah! Ne bwe y'alitubonerezza na guno nga
kyalibadde kimala!! Nabbi n'agamba nti:
Jahannama yasukkulumizibwa ku muliro
gw'edduniya mu kwokya ebitundu 67 nga buli
kitundu kyenkana n'ogwedduniya okwokya.

AKABENJE K'OKUGOBERERA OKWAGALA KW'OMUTIMA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حُجِبَتِ النَّارُ
بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. (متفق عليه)

36. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Omuliro
gwetooloozebwa ebisanyusa omutima,
ate Ejjana ne yeetooloozebwa
ebitamwa omutima.

BULI BID'AT BUBUZE

عَنْ عَائِشَةَ g عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (متفق عليه)

37. Hadiith eva ku Aa'ishat g, yagamba nti:
Yagamba Nabbi ﷺ nti: Omuntu azuula
n'ateeka mu ddiini yaffe eno

ey'obusiraamu ekintu kyonna Allah
n'omubaka we kye bataateekamu,
kya kumuddizibwa.



عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.
(رواه أبو داود والترمذي)

38. Hadiith eva ku Al Irbaadh Ibn Saariya
رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Era mwewale
ebintu ebizuule mu ddiini, kubanga
ddala buli Bid'at buba bubuze.

OBUWEWUFU BW'EDDUNIYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا
وَمَا فِيهَا. (رواه مسلم)

39. Hadiith eva ku Aa'isah g, yagamba nti:
Yagamba Nabbi ﷺ nti: Eraaka ebbiri eza
Sunnat ezisaalibwa nga tonnasaala
Sswala ya Ssubuhi, zisinga edduniya
ne byonna ebigirimu.



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ لَا
عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. (متفق عليه)

40. Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah
ﷺ nti: Ayi Allah! Teri bulamu bulungi
okuggyako obulamu bw'enkomerero.

EDDUNIYA KKOMERA LYA MUKKIRIZA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا سِجْنُ
الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (رواه مسلم)

41. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Edduniya kkomera
Iya Mukkiriza, ate jjana ya mukaafiiri.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ
فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. (رواه البخاري)

42. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنه, yagamba
nti: Omubaka wa Allah ﷻ yankwata ku
bibegaabega nangamba nti: Beera ku
dduniya ng'olinga omugwira (ow'okudda
ku butaka bwe) oba omutambuze
ali mu lugendo.

OBUKULU BW'OKUJJUKIRA ALLAH

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ
الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

(رواه البخاري)

43. Hadiith eva ku Abu Muusa Al Ash'arie
 ﷺ, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
 Allah ﷻ nti: Eky'okulabirako ky'oyo
 ajjukira Allah ﷻ n'oyo at'ajjukira Allah
 ﷻ, kiringa eky'okulabirako ky'enjawulo
 eri wakati w'omufu n'omulamu.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ
 عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ:
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. (متفق عليه)

44. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
 yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
 Allah ﷻ nti: Ebigambo bibiri biwewufu
 nnyo ku lulimi, Kyokka bizitowa nnyo
 ku minzaane epima emirimu emirungi,
 Ate nga byagalwa nnyo eri Allah. (Bye):
 Subhaanallah wa Bihamdihi,
 Subhaanallahul Adhwiim.

OBULUNGI BW'OKUSOMA QUR'AAN

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ مَنْ
تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. (رواه البخاري)

45. Hadiith eva ku Uthmaan Ibn Affaan رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Abasinga obulungi, y'oyo
ayiga okusoma Qur'aan, naye
n'agiyigiriza abalala.



عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
اقْرءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.
(رواه مسلم)

46. Hadiith eva ku Abu Umaama Al Baahili رضي الله عنه,
yagamba nti: Nawulira Omubaka wa
Allah ﷻ ng'agamba nti: Muyitirize nnyo
okusoma Qur'aan, kubanga egenda kujja
ku lunaku lw'enkomerero ng'ewolereza
abasomi baayo.

OKUTAWAAZA KUSONYIYISA AMAZAMBI

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى
تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ. (رواه مسلم)

47. Hadiith eva ku Uthmaan Ibn Affaan رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم nti: Omuntu yenna atawaaza
n'alongoosa okutawaaza kwe, amazambi
ge gafuluma mu mubiri gwe ne gatuuka
n'okufulumira wansi w'enjala ze.

ENKIZO Y'OMWAZIINYI N'OLUNYIRIRI OLUSOOKA MU SSWALA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا
فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا
عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا. (متفق عليه)

48. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Singa abantu baali
bamanyi obulungi obuli mu kwaziina
n'olunyiriri olusooka mu sswala, ne
beesanga nga tebalina ng'eri gye
basobola kubivuganyako okuggyako
nga bakubye kalulu, baalikakubye.



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا
سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. (متفق عليه)

49. Hadiith eva ku Abu Sa'eed Al khudri رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Bwe muba muwulidde
omwaziinyi, muddemu nga
bw'ayogedde.

OBUKULU BW'ESSWALA N'OKUSIIBA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ،
وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفَرَاتٌ لِمَا
بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرُ. (رواه مسلم)

50. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Esswala ettaano,
n'okuva ku Jjuma okutuuka ku Jjuma
endala, n'okuva ku Ramadhan okutuuka
ku Ramadhan endala, bisonyiyisa
omuntu amazambi gonna agali wakati
waabyo, bw'aba nga yeewaze
amazambi amanene.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ
رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. (رواه مسلم)

51. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Okusiiba okusinga
obulungi oluvannyuma lwa Ramadhan
kwe kusiiba omwezi gwa Allah
oguyitibwa Muharram. N'esswala esinga
obulungi oluvannyuma lw'esswala
ettaano ez'etteeka, ye swalaatu Llaili.

IBAADAT TEZIKOMA MU MASJID

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي
بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
(متفق عليه)

52. Hadiith eva ku Zaid Ibn Thaabit رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Nabbi ﷺ yagamba nti:
Musaalirenga mu mayumba gammwe
abange mmwe abantu, kubanga mazima
ddala esswala esinga obulungi, y'esswala
omuntu gy'asaalira mu nju ye ng'oggyeko
esswala (ettaano) ez'etteeka.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (رواه مسلم)

53. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Temufuulanga
amayumba gammwe zi limbo
(ezitakkirizibwa kusomerwamu
Qur'aan), Mazima Shaitwan edduka mu
nju esomerwamu Essuula eyitibwa
Al Baqarat.

ENKIZO Y'OLUNAKU LW'EJJUMA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ
عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. (رواه مسلم)

54. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
 yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
 Allah ﷻ nti: Olunaku olusinga obulungi
 enjuba lw'eviirayo, lwe lunaku
 lw'ejjuma; Mu lwo Nabbi Adam mwe
 yatondebwa, era mu lwo mwe
 yayingizibwa Ejjana, era mu lwo
 mwe yagifulumizibwamu.

OKUSADDAKA N'OKWETOOWAZA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ
 فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا
 وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (متفق عليه)

55. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
 yagamba nti: Mazima Nabbi ﷺ yagamba
 nti: Teri lunaku lukeesa okuggyako
 Malaika bbiri zikka emu n'egamba nti:
 Ayi Allah! Ddizaawo buli yenna
 asaddaase. Ate endala n'egamba nti: Ayi

Allah! Saanyaawo emmaali ya buli
yenna akodowadde.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا تَقَصْتُ صَدَقَةً
مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ
إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (رواه مسلم)

56. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Okusaddaaka
tekulina kyonna kye kukendeeza ku
mmaali. Era Allah talina kirala ky'awa
muddu we ayitiriza okusonyiwa banne
okuggyako okumwongera ekitiibwa. Era
tewali yeetoowaza kulwa Allah
okuggyako nga Allah amusitula.

OKUSIIBA RAMADHAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (متفق عليه)

57. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Nabbi صلى الله عليه وسلم nti:
Omuntu asiiba omwezi gwa Ramadhan,
ng'akkiriza Allah era ng'asuubira
empeera, Allah amusonyiwa amazambi
gonna (amatono) ge yakulembeza
okukola.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (متفق عليه)

58. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba
nti: Yagamba Nabbi صلى الله عليه وسلم nti: Omuntu asaala
(Tarawuya) mu Ramadhan, ng'akkiriza
Allah era ng'asuubira empeera, Allah
amusonyiwa amazambi gonna (amatono)
ge yakulembeza okukola.

OKUSIIBA OKWA SUNNAH

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ
صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.
(رواه مسلم)

59. Hadiith eva ku Abu Ayyuub Al Answari رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Omuntu asiiba omwezi gwa Ramadhan, oluvannyuma n'agoberezaako ennaku mukaaga mu mwezi gwa Shawwaal, aba ng'asiibye omwaka omulamba.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. (متفق عليه)

60. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Amri Ibn Al Aaswi رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Omubaka wa Allah ﷻ nti: Okusiiba ennaku ssatu mu buli mwezi, kyenkanankana n'okusiiba omwaka omulamba.

OKUSIIBA ARAFAT NE AASHUURAA'

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
فَقَالَ: يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. (رواه مسلم)

61. Hadiith eva ku Abu Qataada رضي الله عنه,
yagamba nti: Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم
yabuuzibwa ku kusiiba olunaku lwa
Arafat, n'agamba nti: Kusonyiyisa
amazambi g'omwaka ogw'emabega
n'ogugudirira mu maaso.



عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ. (رواه مسلم)

62. Hadiith eva ku Abu Qataada رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yabuuzibwa ku kusiiba olunaku
lwa Aashuuraa', n'agamba nti:
Kusonyiyisa amazambi g'omwaka
oguwedde.

HIJJAT NE UMRAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُفْثْ أَوْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (متفق عليه)

63. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Nawulira Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم ng'agamba nti: Omuntu akola
Hajj, n'ateegatta na mukyala ng'akyali
mu mizizo gy'ayo, wadde
okugikoleramu ezzambi, akomawo
(ng'asonyiyiddwa amazambi ge gonna,
mutukuvu) ng'olunaku maama
we lwe yamuzaala.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ
كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ.
(متفق عليه)

64. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Okuva ku Umrat

okutuuka ku Umrat endala, Allah
asonyiwa azikoze ebiri wakati wa Umrat
ze ebbiri. Ne Hajj entuufu terina mpeera
okuggyako Ejjana.

OBUKULU BW'OKWANGUYIRIZA OKUWASA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

65. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Mas'uud رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yatugamba nti: Abange mmwe
abavubuka! Aba afunye obusobozi
mummwe, awase. Oyo akyalemereddwa
okuwasa yeekwate ku kusiiba, kubanga
kujja kumubeerera engabo emutangira
okugwa mu mazambi.

NOONYA OMUKYALA OMULONGOOFU

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)

66. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Amri Ibn
Al Aaswi رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba
Omubaka wa Allah ﷻ nti: Edduniya
erimu ebisanyusa eby'akaseera;
N'ekisanyusa ekisinga ebisanyusa
by'edduniya byonna, ye mukyala
omulongoofu.

AMAZIMA N'OBWESIMBU MU BUSUUBUZI

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ: الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . (متفق عليه)

67. Hadiith eva ku Hakiim Ibn Hizaam رضي الله عنه,
 yagamba nti: Mazima Omubaka wa
 Allah ﷻ yagamba nti: Abagulagana
 ababiri ba ddembe (okwekyusa omuguzi
 ne yeekuba oba omutunzi n'agamba nti
 sikyatunze) ebbanga lye bamala nga
 tebannayawukana (kuva mu kifo ekyo).
 Bwe baba ab'amazima wakati waabwe,
 ne boolesa akamogo akali ku
 ky'amaguzi, Allah ateesa omukisa mu
 kugulangana kwabwe. Ate bwe
 balimbagana ne bakwekagana obumogo
 obuli ku ky'amaguzi, Allah aggya
 omukisa mu kugulangana kwabwe.

OBUKULU BW'OKUYUNGA OLUGANDA

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ
 يُسَاطَلَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

(متفق عليه)

68. Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Nabbi صلى الله عليه وسلم nti: Oyo
ayagala Allah amugaziyize riziki ye, era
amwongere n'obuwangaazi, ayunge
ab'enganda ze.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي
إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا. (رواه البخاري)

69. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Amri Ibn
Al Aaswi رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba
Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم nti: Ayunga
oluganda taba 'mpa - nkuwe' (bwe
bamuyunga abayunga bwe batamuyunga
tabayunga), wabula ayunga oluganda,
y'oyo ng'abantu be ne bwe batamuyunga
ye asigala abayunga.

OBUKULU BW'OMULIRAANO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ
يُوصِنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ (متفق عليه)

70. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Malaika Jibril teyalekera awo kunnaamira kuyisa bulungi muliraano, ne ntuuka n'okulowooza nti agenda kungamba nti: Muliraanwa ali omu ku basika!



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ
لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. (رواه مسلم)

71. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Tagenda kuyingira Jjana oyo ateekuuma butanakuwaza muliraanwa we.

BULI MULUNZI WAAKUBUUZIBWA KU KYE YALUNDA

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ
عَنْ رَاعِيَّتِهِ؛ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ
عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. (متفق عليه)

72. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنه, yagamba
nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم
yagamba nti: Buli omu kummwe
mulunzi, era wa kubuuzibwa ku kye
yalunda; Omukulembeze w'abantu
mulunzi, era wakubabuuzibwako.

N'omusajja mulunzi eri abantu
boomumaka ge, era wakubabuuzibwako.
N'omukyala mulunzi eri enju y'omwami
we n'abaana be, era bya
kumubuuzibwako.

**OBUKULU BW'OKWAGALA
N'OKUKUZA OBULUNGI OMWANA
OMUWALA**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَالَ
جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

(رواه مسلم)

73. Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik رضي الله عنه,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Omuntu agunjula abawala
babiri okutuusa lwe bakula, ajja kujja ku
lunaku lw'enkomerero nze naye nga tuli
wamu tuti: N'agatta engalo ze.

**OBUKULU BW'OKUKUUMA
OLULIMI**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ
يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (رواه مسلم في مقدمته على صحيحه)

74. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Kimalira omuntu
okuba omulimba olw'okunyumyanga
buli ky'aba awulidde.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (متفق عليه)

75. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Nabbi ﷻ yagamba
nti: Oyo yenna eyakkiriza Allah
n'olunaku lw'enkomerero, ayogere
kirungi oba asirike



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (متفق عليه)

76. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Amri Ibn
Al Aaswi رضي الله عنه, yagamba nti: Nabbi ﷻ
yagamba nti: Omusiraamu (omutuufu),

y'oyo Abasiraamu gwe baawona obubi
bw'olulimi lwe n'omukono gwe.

OMANYI OKUGEYA KYE KI?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْعِيَّةُ؟
قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ:
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ
فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ. (رواه مسلم)

77. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagamba nti: Mumanyi okugeya
kye ki? Ne bamugamba nti: Allah
n'omubaka we be bamanyi. N'abagamba
nti: Kwe kw'ogera ku mugandawo
(ataliiwo) ekintu ky'atamwa.
N'agambibwa nti: Ate bwemba nga kye
mmwogeddeko akiri? N'agamba nti:
Bw'aba akiri oba omugeyezza, ate
bw'aba takiri oba omutemerredde.

OBULIMBA BULUNGAMYA ERI OMULIRO

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى
الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ... وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ... (متفق عليه)

78. Hadiith eva ku Ibn Mas'uud رضي الله عنه, yagamba
nti: Yagamba Nabbi صلى الله عليه وسلم nti: Mazima
amazima galungamya omuntu eri
obulongoofu, ate nga ddala obulongoofu
bulungamya eri Ejjana. Era ddala
obulimba bulungamya omuntu eri
obwonoonefu, ate nga ddala
obwonoonefu bulungamya
eri omuliro.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ:
إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.
(متفق عليه)

79. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
 yagamba nti: Mazima Omubaka wa
 Allah ﷻ yagamba nti: Obubonero
 bw'omunnanfuusi buli busatu:
 Bw'anyumya alimba, bw'alagaanyisa
 tatuukiriza, bwe yeesigibwa akumpanya.

TYA NNYO OBULYAZAAMAANYA

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ
 ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

80. Hadiith eva ku Jaabir رضي الله عنه, yagamba nti:
 Mazima Omubaka wa Allah ﷻ yagamba
 nti: Mutye nnyo obulyazaamaanya;
 kubanga mazima obulyazaamaanya
 kizikiza ku lunaku lw'enkomerero.

**AKABENJE K'OKUKUBA
EBIFAANANYI N'OKUBYEKUBISA**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَشَدَّ
النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ. (رواه البخاري)

81. Hadiith eva ku Abdullahi Ibn Mas'uud رضي الله عنه, yagamba nti: Nabbi صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Mazima abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ebibonerezo ebikakali ku lunaku lw'enkomerero be bakubi b'ebifaananyi.



عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ
بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. (متفق عليه)

82. Hadiith eva ku Abu Twalha رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Malaika teziyingira nju erimu embwa wadde ekifaananyi.

OKUSALAKO EKIREVU KIRI HARAAM

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ،
وَقَرُّوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. (متفق عليه)

83. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنه, yagamba nti: Yagamba Nabbi صلى الله عليه وسلم nti: Mwawukane ku bashiriku; Mukuze ebirevu, ate mukendeeze amasulubu.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَزُوا الشَّوَارِبَ
وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (رواه مسلم)

84. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Mukendeeze amasulubu ate muleke ebirevu, mwawukane ku basinza omuliro.

**OKUSALA EKIMEMEYA KIRI
HARAAM**
(French cut, Marine cut, Back bush ...)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَرَاعِ.
(متفق عليه)

85. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنه, yagamba nti: Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagaana omuntu okusala enviiri ne zitenkanankana.

OMUSAJJA TAKWEYESA LUGOYE

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنْ
الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. (رواه البخاري)

86. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Enkutu yonna ekka wansi w'obukongovvule (agyambala) wa mu muliro.



عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:
الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ وَالْكَذِبِ.

(رواه مسلم)

87. Hadiith eva ku Abu Hurairat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,
yagamba nti: Mazima Nabbi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yagamba
nti: Abantu ba bika bisatu Allah tagenda
kwogera nabo ku lunaku lw'enkomerero,
wadde okubatunulako, wadde
okubatukuza, era balindiriddwa
ebibonerezo ebiruma: Omusajja assa
engoye ze okusukka obukongovvule,
n'agaba nga yeeraalaasa, n'atunda
eby'amaguzi bye n'okulayira
okw'obulimba.

BANO BAKOLIMIRE

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

(رواه البخاري)

88. Hadiith eva ku Ibn Abbaas رضي الله عنه, yagamba nti: Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yakolimira abasajja abeefaanaanyiriza abakyala n'abakyala abeefaanaanyiriza abasajja.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. (متفق عليه)

89. Hadiith eva ku Ibn Abbaas رضي الله عنه, yagamba nti: Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yakolimira omukyala ayunga ku nviiri ebiviiri ebirala n'oyo abiyungibwako. N'akolimira omukubi wa tattoo n'oyo agikubwa.

OMUKYALA ATAKUZIRA KUWASA

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ
بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (متفق عليه)

90. Hadiith eva ku Ibn Abbaas رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Omu kummwe taddanga ebbali n'omukyala atamuzira kuwasa okuggyako (ng'omukyala oyo) ali n'omuntu amuzira okumuwasa (oba ng'ali n'omwami we).

EYETTA ABONEREZEBWA NE KYE YESSIZZA

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق عليه)

91. Hadiith eva ku Thaabit Ibn Dhwahhaak رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa

Allah ﷻ yagamba nti: N'oyo eyettisa ekintu kyonna ku dduniya, Allah amubonereza n'ekyo kye yessizza ku lunaku lw'enkomerero.

EKIBONEREZO KY'OMUNTU ASABIRIZA

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَسْأَلُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ.

(رواه البخاري)

92. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah ﷻ yagamba nti: Omusajja asabiriza, n'asabiriza, n'asabiriza, n'atuuka okujja ku lunaku lw'enkomerero ng'ekyenyi kye (face) tekuli kanyama konna.

ENSONYI ZA MU BUKKIRIZA

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ
يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.
(متفق عليه)

93. Hadiith eva ku Ibn Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, yagamba
nti: Mazima Nabbi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yayita ku musajja
mu ba Answari n'amuwulira ng'anenya
mugandawe olw'okuba n'ensonyi,
n'amugamba nti: Muveeko, mazima
ensonyi za mu Bukkiriza.

OMUKKIRIZA ABA WAKATI W'OKWEBAZA N'OKUGUMIIRIZA

عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِأَمْرِ
الْمُؤْمِنِ، إِنْ أَمْرُهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ:
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ
ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (رواه مسلم)

94. Hadiith eva ku Suhaib Ibn Sinaan رضي الله عنه,
 yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
 Allah ﷻ nti: Omukkiriza yeewuunyisa!
 Mazima embeera ze zonna ziba nnungi,
 ate ng'ekyo tewali akifuna okuggyako
 nga Mukkiriza; Bw'afuna ekimusanyusa
 nga yeebaza, ekyo ne kiba kirungi gy'ali.
 Ate bw'agezesebwa n'ekimunakuwaza
 ng'agumiikiriza, era ne kiba
 kirungi gy'ali.



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا الصَّبْرُ عِنْدَ
 الصَّدَمَةِ الْأُولَى. (متفق عليه)

95. Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik رضي الله عنه,
 yagamba nti: Yagamba Nabbi ﷺ nti:
 Mazima obugumiikiriza (obubalibwa eri
 Allah) bwebwo obukolebwa
 ng'ekikangabwa kyakagwawo.

ENKUNGUBAGA ENSIRAAMU

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ
بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ
إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.
(متفق عليه)

96. Hadiith eva ku Ibn Umar رضي الله عنهما, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah ﷻ yagamba nti: Mazima Allah tabonereza lwa kukulukuta kw'amaziga, wadde olw'okunakuwala kw'omutima, wabula abonereza lwa kino: n'asonga ku lulimi lwe (ebiwoobe, emiranga, okulombojja, okwekandagga), oba n'asaasira. Era mazima ddala omufu abonerezebwa olw'emiranga abantu be gye bamukubira.

ALLAH ﷻ ASAASIRA MUSAASIZI

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَا
يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ. (متفق عليه)

97. Hadiith eva ku Jariir Ibn Abdillaha ﷺ,
yagamba nti: Yagamba Omubaka wa
Allah ﷻ nti: Oyo atasaasira bantu ne
Allah ﷻ tamusaasira.

ABASINGA EMPISA Y'ABASINGA OBULUNGI

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَ يَقُولُ: إِنَّ
مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنِكُمْ أَخْلَاقًا. (متفق عليه)

98. Hadiith eva ku Abdullah Ibn Amri ﷺ,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah ﷻ yagambanganga nti: Mazima
abasinga obulungi y'oyo
abasinga empisa.

OKUSOOSA DDYO MU BULI KINTU

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. (متفق عليه)

99. Hadiith eva ku Aa'ishat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah ﷻ yayagalanga nnyo okutandika ne ddyo mu kwambala engatto ze, n'okwesanirira, n'okwetukuza, ne mu mbeera ze endala zonna.



عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. (رواه مسلم)

100. Hadiith eva ku Jaabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah ﷻ yayagamba nti: Temuliisanga omukono ogwa kkono, kubanga mazima shaitwan eriisa era enywesa mukono gwayo ogwa kkono.

WEETEGEKEDDE OTYA ENTAANA?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

101. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه, yagamba nti: Mazima Omubaka wa Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Omuntu bw'afa, emirimo gye gyonna (emirungi egimugasa) gikutukawo, okuggyako emirimu esatu: Saddaaka ekulukuta (nga waqfu, okuzimba omuzikiti), oba okumanya okw'omugaso kw'alekera abantu, oba omwana omulongoofu gw'aleka ku nsi n'amusabira.

ALLAH AKKIRIZA OKWENENYA KWA BULI MUNTU

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ
أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا. (رواه مسلم)

102. Hadiith eva ku Abu Hurairat رضي الله عنه,
yagamba nti: Mazima Omubaka wa
Allah صلى الله عليه وسلم yagamba nti: Mazima Allah
asanyuka nnyo ng'omu kummwe
yeenenyezza okusinga omu kummwe
bw'asanyuka ng'ekintu kye
ekyamubulako (ky'ayagala ennyo)
akizudde.



Designed & Published by:

Irshaad Islamic Publishers

P. O. Box 153 Nateete, Kampala - Uganda

Tel: +256 702 934 912, +256 782 885 450

2ND EDITION